



## سوال

(159) تصوف کی تعریف

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تصوف کے بارے میں اختصار سے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تصوف دراصل فلسفہ ہی کی ایک شکل ہے اور ایسے عقیدے کا نام ہے جس سے امور غیبیہ کا دل پر کشف ہوتا ہے اس کا تعلق حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل نہیں ہے اس سلسلہ میں صوفیاء کا نقطہ نظریہ ہے کہ ہم براہ راست اللہ کے رسول سے بصورت کشف علوم حاصل کرتے ہیں۔

اور ہم اس حقیقت کو چھپانا گناہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں صرف اللہ کا وجود ہے اس لحاظ سے ہر انسان اللہ ہے اللہ انسان ہے بلکہ حقیقت میں تمام ایک ہیں البتہ صورتوں کے لحاظ سے فرق ہے وہ بریل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ غیبی علم کے حصول کے لیے کشف ہی ایک راستہ ہے جس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے مجاہدہ کی بے شمار صورتیں ہیں جو بلحاظ وقت جگہ اشخاص کے تبدیل ہوتی رہتی ہیں البتہ نفس کو اذیتوں سے ہمکنار رکھنا مہینہ ورد و وظائف کا بار بار لوگوں سے اختلاط نہ کرنا بالکل الگ تھلگ رہنا اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنا لازمی امور ہیں البتہ اتنی بات ذہن نشین کر لیجیے ضروری نہیں کہ جو انسان تصوف کی طرف منسوب ہے اس کا عقیدہ بیحد و ہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہاں وہ شخص جو تصوف کے آخری مرحلہ پر پہنچ چکا ہے اس کا عقیدہ واقع ہی ہے اور جو صوفی ابھی تصوف کے مراحل طے کر رہا ہے اور آخری مرحلہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے تو وہ جہاں تک پہنچا ہے اسے بس اتنی ہی خبر ہے وہ آخری مراحل سے بے خبر ہے اگر وہ ہمارے بیان کردہ عقیدے کا انکار کر رہا ہے تو ہم اسے معذر سمجھتے ہیں اس لیے کہ ابھی وہ اس مقام سے نا آشنا ہے جہاں صوفی کی آخری منزل ہے۔ (افکار صوفیہ مترجم ص 18)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

[فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ](#)



مجلس البحث والدراسات  
الاسلامية  
محدث فتوى

ج 1 ص 436

محدث فتوى